

صحيح الدعاء والثناء على الله تعالى

Ingantattun Addu'o'i da yabo ga Allah Maxaukaki

Dr. Abdullahi Bn Hamud Al-furaih

Ladaban Addu'a

Yabo ga Allah Maxaukaki

Addu'o'in Al-qur'ani

Addu'ar Sallah

Addu'ar Annabi

Addu'o'in neman tsari
na Annabi

Addu'ar Ruqya

Zikirorin Safiya da Maraice

د. عبد الله بن حمود الفريح

Ka danna akan kowane
Maudhu'I don tafiya zuwa
Azkar ko Addu'a tsa ta
Musamman





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

GABATARWA

Dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin Talikai, kuma tsira da aminci su tabbata ga Manzonsa mai girma, da Alayansa da Sahabbansa baki xaya, wannan wani xan qaamin littafi ne wanda a cikin sa akwai Addu'o'I daban daban da suka tare dukkan Addu'o'I, (Yabo ga Allah da kuma Addu'o'in Qur'ani).

Da kuma Addu'o'in Annabi SAW, da Addu'o'in neman tsari na Manzon Allah SAW da Ruqya ta Shari'a da zikirorin Safiy da Maraice) da kuma ladaban Addu'a, kuma na yi kwaxayin zavo

ingatattun Addu'o'I daga Qur'ani da Sunnar Manzon Allah waxanda suka tattare dukkan Alkairai Masu Yawa, kuma na rubuta shi da Yaren larabci kuma aka fassara shi da Yaren (HAUSA) da kuma rubuta yadda ake furta wannan Addu'a, kuma na faxi Ingancin Hadisan Addu'o'in a qarshen littafin, kuma ina roqon Allah SWT day a sanya wannan aikin sadoda shi akayi kaxai, kuma Allah kayi Sati da tsira ga Annabinmu Muhammad da Alayansa da Sahabbansa baki xaya.

Dr. Abdullah Bn Hamud Al-furaih



GABATARWAR ADDU'O'IN



Ya kai Musulmi kai mabukac zuwa Ubangijinka... Wadatacce ne das hi Mai tsarki

Ga wasu Addu'o'I da suka zo daga Manzon Allah...Ka shirya karvarsu da Zuciyarka..... su Addu'o'I ne da suka tattare da dukkan Al-kairi, ka kiyayesu gwargwadon ikonka, sau dayawa wasu Addu'o'in sukan isar maka ga dukkan abunda kake bukata, saboda Addu'a ce da take da takaitattun lafazai amma kuma mai yalwar Ma'ana.

Babu abunda zai tauyeka a yinta sai halarto da zuciyarka, da qanqan da kai ga Ubangijinka..

LADABAN ADDU'A

Na farko: Ya wajaba ga mai yin Addu'a da tsarkake Addu'arsa ga Allah SWT, kuma ya sanin na tabbaci cewa Allah SWT ne shi kaxai mai iko kan amsa masa Addu'arsa, kada ya roqi wanin Allah ko yayi Tawassuli dad a waninsa, ko kuwa yaya yake kuma koda Annabi ne ko Malaika ko wani Bawa nagari koma yaya yake saboda faxin Allah maxaukakin Sarki:

﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [غافر: ١٤]

“Saboda haka ka roqi Allah kana Mai tsarkake Addini a gare shi” [Surat Gafir: 14].

Na Biyu: dole ne ya riqa kawowa a zucirasa cewa Addu'arka, ita kaxai Ibada ce mai girma kuma Allah yana son, kuma za'a baka lada akanta, bugu da qarin kan amsa Addu'ar taka,

Na Uku: Dole ne ka Amince da Allah Maxaukaki, da kuma cewa shi mai iko ne Kan Amsa Addu'arka kuma Kai baka buqatuwa zuwa wani abun halitta da zai kusantaka zuwa ga Allah Maxaukaki, ko wanin hakan na Bidi'o'I waxan da Muslmi yakan iya faxawa waxanda basu Asali a Shari'a.

Na Huxu: Allah SWT yana farin ciki da tubanka da fuskantowarka zuwa gare shi komai nisan ka da

kayi das hi da Zunubanka, saboda haka ina hanaka kada nisan Amsa Adduarka ya sanya ka bari yanke haso daga rahamarsa ya silalo zuwa zuciyarka, a'a ka halarto da farin cikinsa da tubanka da kuma fuskantowarka a gare shi –kuma shi ne Mawadaci ne, sai kuma ya riqatuno faxinsa:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ [زمر: ٥٣]

“Lalle Allah na gāfarta zunubai gabā daya”.

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ

دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [بقره: ١٨٦]

“Kuma idan bayi na suka tambayeka game da ni to ni ina kusa Ina Amsa Addu'ar wanda ya roqeni”.

Na Biyar: Ya wajaba kada Abinci da abin shan Mai Addu'a ya zamanto daga Haramun ne, saboda wannan yana daga cikin abubuwan da suke hana amsuwar addu'a; Saboda Hadisin Abu Huraira cewa Manzon Allah SAW ya faxi wani:

«الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟»:

“Mutum wanda yake tsawaita tafiya yayi busu busu da qura, kuma yana xaga Hannayesa sama yana Addu'a yana cewa ya Ubangiji ya Ubangiji kuma Abincinsa daga Haram haka abunShansa daga

Haram ne kuma yayi Guzuri da Haram saboda haka ta yaya za'a amsa masa Addu'arsa? (Muslim ne ya rawaito shi 1015).

Na Shida: ya kamata ga mai Addu'a ya zo da ladabai da sunnonin Addu'a waxan da suke su ne:

1 Yayi Addu'a cikin tsarki kuma yayi Alwala irin Alwalar Sallah; saboda hadisin Abu Musa –Allah ya yarda das hi- wanda yak e cikin Buhari da Muslim, kuma wanda ya qunshi Qissarsa da Baffansa Abu Amir –Allah ya yarda da shi- kuma a cikin Hadisin Abu Amir yayi wa Abu Musa wasiyyar day a nemi Manzon Allah SAW yayi Masa

Addu'a sai Abu Musa ya bashi labari, sai Manzon Allah ya nemi akawo Masa Ruwa sai yayi Alwala sannan ya xaga Hannayensa, sannan y ace:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبِيدِي، أَبِي عَامِرٍ»

“Ya Ubangiji ka gafartawa Ubaid, Abu Amir”

har said a naga farin Hammatarsa, sannan y ace:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ مِنَ النَّاسِ»

“Ya Ubangiji ka sanya shi a Ranar Alqiyama sama da mafi yawan Halittunka na Mutane” Bukhari ya rawai to shi a lamba ta (4323) da Muslim a lamba ta (298).

2 Ya fukanci Al-qibla

3 Kuma ya xaga Hannayensa kamar yadda Hadisin ya koyar da waxan nan Sunnonin guda Biyu Hadisin Abdullahi Bn Abbas –Allah ya yarda da su- ya ce: Umar Bn Khaxxab –Allah yarda das u- ya gayamun y ace: a lokacin yaqin Badr Manzon Allah ya kalli Mushirikai su suna su Dubu, Sababbansa Xari Uku da Sha tara, sai Annabin Allah ya kalli Al-qibla, Sannan ya Miqe Hannayansa yana roqon Ubangijinsa,

«اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي»:

“Ya Ubangiji ka zartarmun da

abunda kajyi mun Al-qawari, Ya Ubangi ji ka bani abunda kayi mun Alqawari” Hadisin Muslim ne ya rawaito shi a Lamba ta (1763).

4 Ya fara a cikin Addu'arsa da kirari ga Allah _-Maxaukakin Sarki- da kuma Salati ga Manzon Allah SAW saboda Hadisin da aka rawaito daga Fudhala Bn Ubaid Sahabin Manzon Allah SAW yak e cewa naji Manzon Allah SAW yana cewa wani Mutum da yayi Addu'a a sallarsa bai yi kirari ga Allah ba, kuma bai yi Salati ga Manzon Allah SAW ba Sai Manzon Allah SAW y ace: «عَجَلْ هَذَا»: “Wannan yayi gaggawa” sanna ya kirawo shi y ace das hi:

«إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَبْدَأْ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ جَلَّ وَعَزَّ، وَالشَّانِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدَ بِمَا شَاءَ»:

“Idan xayanku yayi sallah to ya farad a kirari ga Allah da yabo a gare shi, sannan yayi Salati ga manzon Allah sannan yayi Addu'a bayan haka da abunda yak e so”

Kuma da za'a ce ya farad a Yabon Allah Musammam AYoyin yabon Musamman Ayoyin godiya waxanda suka zo daga a farkon Surorin da zamu faxa a gaba, sannan yayi salati ga Manzon Allah SAW sannan yayi kirari ga Allah da nau'o'in Kirari daga cikin su akwai waxan da zamu faxa nan gaba to

ya kasance mafi kusa da samun Amsawa.

5 Lallai cewa ya roqi Allah kuma yana mai kyautata zato das hi, kuma ya sakankance da Amsar Addu'a kuma kada ya gaggauta neman Amsawa, a'a ya sakankance cewa Allah yana Amsa Addu'arsa, An rawaito daga Abu Huraira daga manzon Allah SAW y ace:

«لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ، مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةٍ رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَعْجَلِ»:

“Ba'a gushe ba ana Amsa Addu'ar Bawa matuqar dai bai roqi Zunubi ba ko yanke zumunci, ko kuma yayi gaggawar” aka ce ya Manzon Allah yaya ne gaggautawar?

«يَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَيْسْتَجِيبُ
لي، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدْعُ الدُّعَاءَ»:

Ya ce: “Haqiqa nayi Addu’ar, banga Amsar hakan ba sai ya xebe haso ya bar Addu’ar daga nan” Muslim ne ya rawai to shi (2735)

6 Ya roqi Allah SWT da sunayensa Masu tsarki kuma ya riqa nau’antawa da abunda ya dace da Addu’a, idan zai roqi Allah SWT Arziqi, yace: Ya Mai Azurtawa, Kuma idan zai roqi Allah Rahama, sai yace Ya rahman ya Rahim, kuma idan zai roqi Allah Xaukaka yace: yace Ya Azizu, kuma idan zai roqi Allah gafara, yace: ya Gafour,

kuma idan zaka roqi Allah da Waraka, sai y ace: Ya Shafi,

kuma haka dai zai rinqa Addu'a ya kirawo sunan day a dace da Addu'arsa, saboda faxin Allah Maxaukakin Sarki: says

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٨٠]

“Kuma ga Allah kyawawan Sunaye suke saboda haka ku roqe shi dasu” [A'araf: 180]

7 Ya kasance lafazan Addu'a kuma ya nace a wajen Allah wajen nema;

saboda Hadisin Ibn Abbas –Allah ya yarda das u a cikin Addu'ar manzon Allah SAW ga Sahabbansa

a ranar Badr inda yak e cewa:

«اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي»:

“Ya Ubangiji ka zartarmun da abunda kajyi mun Al-qawari, Ya Ubangiji ka zartarmun da abunda kajyi mun Al-qawari” kuma bai gushe ba yana roqon Ubangijinsa har said a Mayafinsa ya daga kafaxarsa, kuma Abubakar yana tare das hi, kuma yana ce masa:

«اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ، اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا

وَائْتِ بِهِمْ»:

“ya Manzon Allah roqon da kake yi wa Ubangijinka ya isar maka” Muslim ne ya rawaito shi a lamba (1763).

Kuma haka ya zo a cikin buhari da Muslim a Hadisin Abu Huraira –Allah ya yarda das hi- lokacin da Manzon Allah ya yiwa Dausu Addu'a sai y ace: “Ya Ubangiji ka shiryi Dausu, kuma ka kawo su, ya Ubangiji ka shiryi dausu kuma kazoo das u” Buhari ne ya rawaito shi a lamba (2937) Muslim ne ya rawai to a lamba (2524).

8 Ya Voyer Addu'arsa kuma kada ya bayyana ta, saboda faxin Allah SWT:

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: ٥٥]

“Ku roqi Ubangijinku kuna masu qanqan da kanku da kuma voyewa” [Al-a'araf: 55],

da kuma voye Addu'a shi ne mafi kusanci da ikhlasi, saboda yabon da Allah yayiwa Annabi Zakariyya –Amincin Allah a gare shi- da wannan sai y ace:

﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَنِدَاءً خَفِيًّا﴾ [مریم: ۳]

“Ka tuna lokacin da ya roqi ubangijinsa roqo a voye” [Maryam: 3] saboda neman Ikhlas, kan daidai da xaya daga cikin Maganganun Malaman tafsiri.

9 Addu'ar sat a qunshi yabo da kirari ga Allah SWT saboda Allah yana son Bawansa ya shagalta da yabonsa; don ya bauta masa da yabo a gare shi, in bah aka saboda Allah

Wadatacce ne ga barin bayinsa,
ya zo a cikin buhari da Muslim
a Hadisin Ibn Mas'ud Manzon
Allah SAW ya ce:

«وَلَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ
مَدَحَ نَفْسَهُ»:

“Babu wani abu mafi soyuwa
gare shi kamar Yabo ga Allah kuma
saboda haka ya yabi kansa”.

10 Mai Addu'a ya kirdadi lokacin
Amsar Addu'a sai yai Addu'a
a cikinta. Kuma daga cikin
lokutan amsar Addu'a waxanda
suka zo a cikin Qur'ani da
Hadisi: (Addu'a tsakanin kiran
Sallah da Iqama – da cikin kaso
xaya na ukan Qarshen dare – da

kuma cikin lokacin Sa'ar jumu'a da bayan Sallolin Farilla da cikin Sujada da lokacin saukar rowan Sama da Addu'ar Musulmi ga Xan Uwansa a voye, da Addu'ar Uba da Xansa, da Addu'ar da Addu'ar Matafiyi, da Addu'ar wanda aka zalunta).



صَحِيحُ الدَّعَاوِ وَالشَّعَائِرِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى

**KIRARI
GA ALLAH GA
ALLAH MAXAUKAKIN
SARKI**





﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ
﴿الرَّحِيمِ﴾ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤﴾ ﴿٤﴾

[الفاتحة: ٢-٤]

Godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin halittu; Mai rahama, Mai jin kai; Mai nuna Mulkin Rānar Sakamako. Kai muke bauta wa, kuma Kai muke neman taimakonKa Ka shiryar da mu ga hanya madaidaiciya. Hanyar wadanda Ka yi wa ni'ima, ba wadanda aka yi wa fushi ba, kuma ba batattu ba



﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى
وَتُكْلٍ وَرُبْعٍ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ
اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [فاطر: ١]

Gōdiya ta tabbata ga Allah wanda
Ya halitta sammai da kasa wanda
ya sanya Mala'iku masu fukafukai
biyu biyu da kuma uku da huxu
kuma yana qarawa a halittarsa ga
wanda ya so lallai Allah mai iko ne
akan komai” faxir: 1



﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: ١]

Gōdiya ta tabbata ga Allah wanda
Ya halitta sammai da ƙasa, kuma Ya
sanya duffai da haske



﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ
الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ [سبأ: ١]

Gōdiya ta tabbata ga Allah, wanda
Yake abin da yake a cikin sammai
da abin da yake a cikin ƙasã Nāsa
ne, kuma shī ne Mai hikima, Mai
labartawa.



«الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ»

*“Alhamdu lillahi hamdan kasiiran
dayyiban mubaarakan fihi”*

“Godiya ta tabbata ga Allah godiya
mai yawa kuma mai Al-barka a
cikinta”

2

«رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِثْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
وَمِثْلُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الشَّنَاءِ
وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ:
اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا
مَنْعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجُدُّ»

(Rabbana lakal hamdu mil'us samaawaati wal ardi, wamil'a maa shi'ita min shai'in ba'adi ahussanaa'I wal majdi, ahaqqu ma qaalal abdu, wa kulluna laka abda:Allahumma laa maani'a lima a'adaita, walaa mu'udiya lima mana'ata, walaa yanfa'u zaljaddi minkaljaddi)

Ubangijinmu godiya ta tabbata a gareka cikin sammai da Qasa, da kuma cikin abunda ka so na wani abu bayansa, Ma'abocin Yabo da Xaukaka, kai ne Mafi cancanta da abunda Bawa zai ce: Ya Ubangiji babu Mai hana abunda ka bayan kuma babu mai bada abunda ka hana, Kuma dukiyar mai Dukiya bata anfanar da kai komai”



«اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ
كُلُّهُ»

*“Allahumma lakal hamdu kulluhu,
wa ilaika yurja 'ul amru kulluhu”*

“Ya Ubangiji godiya ta tabbata a
gareka kuma gareka Makomar Al-
amura take baki xaya”

4

«اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ،
وَقَوْلِكَ الْحَقُّ، وَوَعْدِكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ،
وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، (وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ،
وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ) وَالسَّاعَةُ
حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ
تَوَكَّلْتُ، (وَإِلَيْكَ أَنْبْتُ) وَإِلَيْكَ خَاصَمْتُ، وَبِكَ
حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ،
وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي،
(أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ) لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»

(Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyumus samaawaati wal ardi, wa lakal hamdu anta rabbas samaawaati wal ardi waman fii hinna, wa lakal hamdu anta nuurus samaawaati wal ardi waman fii hinna, antal haqqu, wa qaulukal haqqu, wa wa'adukal haqqu, wa liqaa'ukal haqqu, wal jannatu haqqun, wannaari haqqun. (wan nabiyyuna haqqun, wa Muhammadun sallallaahu alaihi wa sallama haqqun) was saa'atu haqqun, Allahumma laka aslamtu, wa bika aamantu, wa alaika tawakkaltu, (wa ilaika anabtu) wa ilaika khaasamtu,

wa bika haakamtu, fagfirlii maa qaddamtu wamaa akhkhartu wama asrarrtu wama a'alantu, wamaa anta a'alamu bihii minni, (antal muqaddamu wa antal mu'akhkhiru) laa'ilaaha illa anta).

“Ya Ubangi godiya ta tabbata a gareka kaine mai riqe da Sammai da Qasa, kuma godiya ta tabbata a gareka kaine ubangijin Sammai da Qasa da abunda suke a tsakaninsa, kuma godiya ta tabbata a gareka kai ne Hasken Sammai da Qasa da abunda, kai ne Gaskiya kuma Maganarka Gaskiya ne, kuma Al-qawarinka gaskiya ne, kuma gamuwa da kai Gaskiya ne, kuma

Al-janna gaskiya ne, kuma wuta ma gaskiya ce, kuma Annabawa gaskiya ne, kuma Annabi Muhammad SAW gaskiya ne, kuma Al-qiyama gaskiya ne, Kuma Al-qiyama gaskiya ce, Ya Ubangiji gareka na miqa Wuya da kai kuma nayi Imani, gareka na dogara, kuma gareka na maida Al-amarina, kuma garela na kai qara kuma gareka nake kai qara, to kayi mun gafarar abunda na gabatar da wanda na jinkirta, da wanda na voye da wanda na bayyana, da kuma abunda kuma kafi ni sani das hi, Kai ne mai gabatarwa kuma kai ne mai jinkirtawa, Babu sarki sai Kai”



﴿اللَّهُمَّ مَلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ
 وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ
 وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾ تُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوَلِّجُ
 النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ
 وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ
 بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢٧﴾﴾ [آل عمران: ٢٦-٢٧]

"Yā Allah Mamallakin mulki, Kanā bayar da mulki ga wanda Kake so, Kanā zāre mulki daga wanda Kake so, kuma Kanā buwāyar da wanda Kake so, kuma Kanā kaskantar da

wanda Kake so, ga hannunKa alhēri yake. Lalle ne Kai, a kan kōwane abu, Mai ñkon yi ne.

"Kanã shigar da dare a cikin yini, kuma Kanã shigar da yini a cikin dare, kuma Kana fitar da mai rai daga mamaci, kuma Kanã fitar da mamaci daga mai rai, kuma Kanã azurta wanda Kake so bã da lissafi ba."

Ayoyi biyu daga cikin Surat Ali Imran Aya ta 26, da 27 a farkon Ayar farko an shafe Kalmar (Ka ce) da gangan don nuni da farkon fara Addu'a.

5

«اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ
 الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ
 الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
 وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ
 أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ
 فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ
 بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ
 شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ،
 اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ، وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ»

*(Allahumma rabbas samaawaati
 wa rabbal ardi wa rabbal arshil*

aziimi, rabbana wa rabba kulla shai'in, faaliqal habbi wannawaa, wa munzilat tauraati wal injiili, wal furqaani, a'uzu bika min sharri kulli shai'in anta aakhizun bi nasiyatih, Allahumma antal auwalu fa laisa qablaka shai'un, wa antal aakhiru falaisa ba'adaka shai'un, wantaz zahiru falaisa fauqaka shai'un, wantal baadinu falaisa duunaka shai'un, iqdhi annad daina, wa agninaa minal faqri).

Ya Ubangiji Ubangiji Sammai da Qasa kuma Ubangijin Al-arshi mai girma, kuma Ubangijin kowane Abu wanda ya futar da Qwaya da

kuma tsiro daga cikin kwallon Dabino kuma wanda ya saukar da Attaura da Linjila da kuma Al-furqan ina neman tsari da kai daga Sharrin kowane Abu wanda kai ne kake riqo da Makwankwaxarsa ya Ubangiji kai ne na farko babu wani kafin kai kuma kai ne na qarshe wanda babu wani bayanka, kuma kaine bayyananne wanda babu sama da kai, kuma kai ne Voyayye wanda babu wani koma bayanka, ka biyamun bashi na kuma ka wadata ni daga Talauci”

6

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُكَ وَأَشْهَدُ مَلَائِكَتَكَ
 وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَأَشْهَدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ
 وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا
 أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ
 مُحَمَّدًا عَبْدًا وَرَسُولُكَ»

*(Allahumma innii ushhiduka
 wa ushhidu malaa'ikatika wa
 hamalata arshika, wa ushhadu
 man fissamaawaati waman fil ardi,
 annaka antallaahu laailaaha illaa
 anta, wahdaka laa shariika laka,
 wa ashhadu anna Muhammadan
 abduka wa rasuuluka”.*

Ya Ubangiji ni ina shaidawa da kai kuma ina shaidawa da Mala'ikunka da Masu xaukae da Al-arshinka, kuma ina Shaidawa da waxanda suke cikin Sammai da Qasa, cewa kai kaine Allah wanda babu wani sai kai kaxai baka da Abokin Tarayya a gareka, kuma ina shaidawa cewa Annabi Muhammad Bawanka ne kuma Manzonka”

7

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ»

*(Allahumma innii as'aluka bi annii
ashhadu annka antallahu laa'ilaaha
illa antal ahadus samadu, allazii
lam yalid walam yuulad walam
yakun lahuu kufuwan ahadun)*

“Ya Ubangiji lalli ni ina roqonka
cewa kuma na shaida cewa kai ne
Allah Wanda babu wani Ubangiji
face kai kaxai wanda ake nufa da

Bukata, wanda bai Haifa kuma ba'a
Haife shi ba kuma bashi da kin da
zai ja das hi ko xaya”

Ya zo cikin Hadisi cewa wannan
Addu'ar ita sunan Allah mafi girma
wanda in aka roqe shi das hi yake
Amsawa ko aka tambaye shi yake
bayarwa.

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ»

*(Laa'ilaaha illallaahul aziimul
haliimu, laailaaha illallahu rabbal
arshil aziimi, laa'ilaaha illallahu
rabbas samaawaati wa rabbal ardi
wa rabbal arshil aziimi).*

Babu wani Ubangiji sai Allah Mai girma kuma mai Haquri, Babu wani Ubangiji sai Allah Ubangijin Al-

arshi Maigirma, Babu wani Ubangiji
Sai Allah Ubangijin Sammai da Qasa
kuma Ubangijin Al-arshi Maigirma”

Kuma tana daga cikin Addu'ar Yaye
baqin ciki da Damuwa



«اللَّهُ، اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا»

*(Allaahu, Allaahu rabbi laa ushrika
bihii shai'a)*

Allah Allah shi ne Ubangiji na
kuma bana masa Shirka ko xaya

Kuma tana daga cikin Addu'ar Yaye
baqin ciki da Damuwa

10

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُ
أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، سُبْحَانَ
اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ»

*(Laa'ilaaha illallaahu wahdahu
laa shariika lahu, Allaahu akbar
kabiiran, walhamudu lillahi
kasiiran.subhaanallaahi rabbil
aalamiina, laa haula wala quwwata
illa billaahil aziizil hakiimi)*

“Babu wani Ubangiji Sai Allah shi
kaxai bashi da Abokin tarayya, Allah

shi ne mafi girma kuma godiya mai
yawa ta tabbata a gare shi, tsarki ya
tabbata ga Allah ubangijin Talikai,
Babu tsimi babu Dabara sai na Allah
Mabuwayi kuma mai Hikima”



«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ
الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ، سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ»

*(Laailaaha illallaahu wahdahu
laa shariika lahu, lahul mulku,
walahul hamdu, wa huwa alaa kulli
shai'in qadiirun, subhaanallaahi,
walhamdu lillaahi, wa laa'ilaaha
illallahu, wallaahu akbar, walaa
haua walaa quwwata ilaa billahil
aliyyul aziimi”.*

Babu wani Ubangiji Sai Allah shi kaxai wanda bashi da Abokin tarayya, Mulki nasa ne kuma godiya ta tabbata a gare shi, kuma shi mai iko ne akan komai, tsarki ya tabbata ga Allah da godiya a gare shi kuma babu wani Ubangiji sai shi, kuma Allah shi ne Mafi girma kuma babu tsimi babu Dabara sai ga Allah Maxaukaki Maigirma”



«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعَدَّهُ، وَنَصَرَ
عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ»

*(Laa'ilaaha illallaahu wahdahu,
anjaza wa'adahuu, wa nasara
abdahuu, wa hazamal ahzaaba
wahdahuu)*

Babu Wani Ubangiji Sai Allah
shi kaxai, kuma ya zartar da Al-
kawarinsa, kuma ya taimaki
Bawansa, kuma ya Rusa Runduna
shi kaxai”

13

«اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي
وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا
اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ،
أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي
فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»

*(Allaahumma anta rabbi laa 'ilaaha
illaa anta, khalaqtanii, wa ana
abduka, wa ana alaa ahdika
wawa'adika mastada'atu, a'uzu
bika min sharri maa sana'atu,
abuu'u laka bi ni'imatika alayya,
wa abuu'u bizanbii fa innahu laa
yagfiruz zunuuba illaa anta)*

Ya Ubangiji kai ne Ubangiji na wanda babu wani Ubangijin Sai kai kuma ni Bawanka ne kuma ina kan Alqawarinka da yarjejeniya da kai, gwargwadon iko kuma ina neman tsarinka daga Sharrin abunda na aikata kuma ina iqirari da Ni'armaka a gare ni kuma ina iqirari gare ka da Zunubaina saboda haka kayi mun gafara saboda babu mai yin gafarar Zunubai sai kai Kaxai”

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ»

(Allahumma innii as'aluka bi'anna lakalhamdu, laa'ilaaha illa antal mannaanu, badii'as samaawaati wal ardi, yaa zal jalali wal ikraami, yaa hayyu yaa qayyuumu)

“Ya Ubangiji lallai ni ina roqonka da cewa godiya ta tabbata a gareka, babu wani Ubangiji sai kai kai ne Mai yawan Baiwa, Wanda ya

samar da Sammai da Qasa, ya mai
Xaukaka da Karamci, Ya rayayye
ya tsayayye da kansa”

Ya zo cikin Hadisi cewa wannan
Addu'ar ita sunan Allah mafi girma
wanda in aka roqe shi das hi yake
Amsawa ko aka tambaye shi yake
bayarwa.



«سُبْحَانَكَ مَا أَعْظَمَكَ رَبَّنَا»

Subhanaka Ma A'azamak Rabbana

Tsarki ya tabbata a gareka
babu abunda yafika girma
Ubangijinmu”



«سُبْحَانَ ذِي الْجَبَرُوتِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ»

*(Subhaana ziil jabaruuti wal
malakuuti wal kibriyaa'I wal
azamati*

Tsarki ya tabbata ga Maabocin isa
da Mulki da Kuma Daukaka.

17

«اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ
وَالْجَبْرُوتِ وَالْكَبْرِيَاءِ وَالْعِزَّةِ»

*(Allaahu akbar-salaasan-zul
malakuuti wal jabaruuti wal
kibriyaa'I wal azamati)*

“Allah shi Mafi girma –Sau Uku-
Ma'abocin Mulki Maigirma,
da galaba kan komai da isa da
Xaukaka”

18

«اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا،
وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا»

*(Allahu akbar kabiiran, walhamdu
lillaahi kasiiran, wa subhanallahi
bukratan wa asiilaa)*

Allah shi mafi girma Kuma godiya
Mai yawa ta tabbata ga Allah, Kuma
tsarki ya tabbata ga Allah Safiya da
Maraice

Kuma Mustahabi akan ka bayan kirari ga Allah kayoi Salati ga Manzon Allah SAW

«اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

Allaahumma salli wasallim
alaa Muhammadin wa alaa aali
Muhammadin, kamaa sallaita
alaa Ibrahiima, Innaka hamiidun
majiidun)

صَاحِبُ الدُّعَا وَالشَّعَائِرِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى



**ADDU'AR
AL-QUR'ANI**



1

﴿حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [التوبة: ١٢٩]

Ma'ishīna Allah ne. Bābu abin
bautāwa fāce shi. A gare Shi nake
dōgara. Kuma Shi ne Ubangijin
Al'arshi mai girma. Taubah : 129

2

﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ

الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧]

"Bābu abīn bautāwa fāce Kai. Tsarki ya tabbata a gare Ka. Lalle ne nī, na kasance daga azzālumai."

Al-anbiya: 87

3

﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي

رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ﴾ [إبراهيم: ٤٠]

Yā Ubangijina! Ka sanyā ni mai tsayar da salla. Kuma daga zūriyyata. Yā Ubangijinmu! Kuma Ka karbi addu'ata. Ibrahim : 40



﴿هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [آل عمران: ٣٨]

Yā Ubangijina! Ka sanyā ni mai tsayar da salla. Kuma daga zūriyyata. Yā Ubangijinmu! Kuma Ka karbi addu'ata. Ali Imran : 38



﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي
أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٤٧]

"Ya Ubangijinmu! Ka gāfarta mana zunubanmu da barnarmu a cikin al'amarinmu, kuma Ka tabbatar da dugaduganmu, kuma Ka taimake mu a kan mutānen nan kāfirai." Ali imran: 147



﴿رَبِّ اغْفِرْ وَأَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ

الرَّحِيمِينَ﴾ [المؤمنون: ١١٨]

"Yā Ubangijina! Ka yi gāfara, Ka yi rahama, kuma Kai ne Mafi alhērin māsū rahama." Al-Mu'aminun: 118



﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي﴾

[القصص: ١٦]

"Ya Ubangijina! Lalle na zālunci kaina, sai Ka yi mini gāfara." Al-qasas: 16

8

﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا
وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٢٥٠﴾

[البقرة: ٢٥٠]

"Yā Ubangijinmu! Ka zuba hakuri a kanmu kuma Ka tabbatar da sāwayenmu, kuma Ka taimake mu a kan mutānen nan kāfirai." Al-baqara: 250



رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ
لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

[آل عمران: ٨]

Yā Ubangijinmu! Kada Ka
karkatar da zukātanmu bāyan har
Kā shiryar da mu, kuma Ka bā
mu rahama daga gunKa. Lalle ne,
Kai, Kai ne Mai yawan kyauta
Ali imran: 8

10

﴿رَبِّ أَسْرَحْ لِي صَدْرِي﴾ ﴿٢٥﴾ وَيَسِّرْ لِي
أَمْرِي ﴿٢٦﴾ [طه: ٢٥-٢٦]

"Ya Ubangiji! Ka budā* mini,
kirjīna. kuma ka sawwake mun
Al'amari na Xaha: 25-26

11

﴿مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ ﴿٨٣﴾
[الأنبياء: ٣٨]

"Lalle nĩ, cūta ta shāfe ni, alhāli
kuwa Kai ne Mafi rahamar māsu
rahama." Al-anbiya: 83

12

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿٩٧﴾
وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٨﴾

[المؤمنون: ٩٧-٩٨]

“Yā Ubangijīna, inā nēman tsari da Kai daga fizge-fizgen Shaidānu. "Kuma inā nēman tsari da Kai, ya Ubangijīna! Dōmin kada su halarto ni” Al-mu’aminun: 97-98



رَبَّنَا أَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ
عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ [الفرقان: ٦٥]

"Ya Ubangijinmu! Ka karkatar da
azābar Jahannama daga gare mu.
Lalle ne, azābarta tã zama tãra* *
Garama, ita ce ukūba da dūkiya Al-
furqan: 65



﴿وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا
رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ
خَيْرُ الْفَاتِحِينَ﴾ [الأعراف: ٨٩]

Ubangijinmu Yã yalwaci dukan
kõme ga ilmi. Ga Allah muka
dõgara. Yã Ubangijinmu! Ka yi
hukunci a tsakãninmu da tsakanin
mutãnenmu da gaskiya, kuma Kai
ne Mafi alhërin mãsu hukunci."

Al-a'araf: 89

15

﴿أَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (١١٤)

[المائدة: ١١٤]

Ka azurta mu, kuma Kai ne
Mafificin mãsu azurtawa.

Al-Ma'ida: 114

16

﴿رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ

أَمْرِنَا رَشَدًا﴾ [الكهف: ١٠]

"Ya Ubangijinmu*! Ka bã mu wata
rahama daga gare Ka, kuma Ka
saukake mana (sãmun) shiriya daga
al'amarinmu." Al-kahf: 10



﴿رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي﴾

بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾ [الشعراء: ٨٣]

"Ya Ubangijina! Ka ba ni hukunci,
kuma Ka riskar da ni ga sālihai."

Al-Shu'aea: 83



﴿رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]

"Yā Ubangiji! Ka kãra mini ilmi."

Xaha: 114



﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ (٢٤)

[القصص: ٢٤]

"Yā Ubangijīna! Lalle ne, ga abin da Ka saukar zuwa gare ni na alhēri ni mai bukāta ne." Al-qasas: 24



﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا
قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾ ﴿٧٤﴾

[الفرقان: ٧٤]

"Yā Ubangijinmu! Ka bã mu sanyin idānu daga mātānmu da zūriyarmu, kuma Ka sanya* mu shūgabanni ga māsū takāwa."

Al-furqan: 74



رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي
 أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ
 صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي
 عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾ [النمل: ١٩]

"Yā Ubangijīna! Ka cūsa mini in
 gōde wani'imarKa waddaKa ni'imta
 ta a gare ni da kuma ga mahaifāna
 biyu, kuma in aikata aiki na kwarai,
 wanda Kake yarda da shi, kuma Ka
 shigar da ni, sabōda rahamarKa, a
 cikin bāyinKa sālihai." Al-naml: 19



﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾﴾ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
 التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ [البقرة: ١٢٧-١٢٨]

"Yā Ubangijnmu! Ka karba daga
 gare mu, lalle ne Kai, Kai ne Mai ji,
 Mai sani. "Ya Ubangijnmu! Ka sanya
 mu, mu biyu, wadanda suka sallama
 (al'amari) gare Ka, kuma daga
 zuriyarmu (Ka sanya) al'umma mai
 sallamāwa zuwa gare Ka, Kuma Ka
 nūna mana wurāren ibādar hajjinmu,
 kuma Ka karbi tūba a kanmu. Lalle
 ne Kai, Kai ne Mai karbar tūba, Mai
 rahama. Al-baqara: 128-129

صحيح الدعاء والثناء على الله تعالى



**DAGA CIKIN
ADDU'O'IN
SALLAH**

1

«اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا
بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي
مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ
الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ
وَالْمَاءِ وَالْبَرْدِ»

(Allahumma baa'id bainii wa baina khadaayayaya kama ba'adta bainal mashriqi walmagribi, Allahumma naqqini min khadaayaaya kama yanaqqis saubul abyadhu minaddanasi, Allahummagsilnii min khadaayaaya bissalji wai'maa walbardi)

Ya ubangiji ka nisanta tsakaninmu da tsakanin laifukana kamar yadda ka nisanta tsakanin Gabas da Yamma, Ya Ubangiji ka tsaftace ni daga kusakurai na kamar yadda kake tsafatace farar tufa daga Datti, Ya Ubangiji ka wanke ni daga laifuka na da qanqara da Ruwa da kuma Rava”

Kuma tana daga cikin Addu'o'in Sallah



«اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ،
وإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ
عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اهْدِنِي
لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ، إِنَّكَ
تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ»

(Allahumma rabba jibriila, wa miikaa'iila, wa israafila, faadiras samaawaati wal'ardi, aalimal gaibi wash shahaadati, anta tahkumu baina ibaadika fima kaanuu fihi yakhtalifuuna, ihdini limakhtalafa fihi minal haqqi bi'iznika, innaka

*tahdii man taa'u ilaa siraadin
mustaqiimin)*

“Ya Ubangijin Jibrila da Mika'ila da Israful wanda ya halicci sammai da Qasa, Masanin fake kaine mai Hukunci a tsakanin bayinka cikin abunda suke savawa, ka shiryar da ni cikin abunda suka sava a cikinsa na gaskiya da izininka, lallai kai ne mai shiryarwa ga wanda ka so zuwa tafarki madaidaici”

KUMA ITA CE ADDU'AR
BUXE SALLAH MUSAMMAN
SALLAR DARE

KUMA ANA KARANTATA MA
IDAN AKA RIKICE WAJEN
GANO GASKIYA KO FARUWAR
SHAKKU

3

«وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»

*(wajjahtu wajhiya lillazii fadaras
samaawaati wal ardhi faniifan,
wamaa kaana minal mushrikiina,
inna salaatii, wa nuskii, wamahyya
wa mamaatii lillahi rabbil alamiina,
laa shariika lahuu, abizaalika
umirtu wa'ana minal muslimiina
Allahumma antal maliku laa'ilaaha
illaa anta, anta rabbii wa ana
abduka zalamtu nafsii wa'ataraftu
bizanbii fagfirlii zunuubii jamii'an,
innahuu laa yagfiruz zunuubz illaa
anta, wahdinii li ahsanil akhlaaqi
laa yahdii li'ahsanihaa illaa anta,
wasrif anni annii sayyi'ahaa
laa yasrif annii sayyi'ahaa illaa
anta, labbaika wasa'adaika
walkhairu kulluhu fii yadaika,*

*wash sharri laisa ilaika, ana bika
walaika, tabaarakta wata'aalaita,
astagfiruka wa atuubu ilaika,)*

Na fuskantar da Fuskata ga wanda ya halicci sammai da qasa ina mai bin Addinsa, kuma bai kasance cikin Masu Shirka ba, lallai Sallat da Yanka na da Rayuwa ta duka na Allah ne Ubangijin Talikai, Bashi da Abokin Tarayya kuma da haka aka Umarce ni kuma ni ina cikin Musulmai, Ya Ubangiji kai ne mai Mulki, da babu wani Ubangijin sai kai kai ubangiji na kuma ni Bawanka ne, na zalunci kaina kuma ina furuci da Zunubaina kayimun gafararsu baki xayansu, saboda lallai babu mai gafarta su sai kai,

kuma ka shiryar da ni zuwa Mafi kyawun Halaye babu wanda zai iya shiryar da ni sai kai, kuma ka kautarmun da munannansu babu wanda zai iya kautarmun das u sai kai, Amsawarka bayan Amsawa, kuma ina neman rabauta bayan rabauta, kuma dukkan Al-kairi yana Hannunka, kuma Sharri ba'a danganta shi zuwa gareka ni dfaga gareka nake kuma gareka nake komawa, Alkairanka sun yawaita kuma ka xaukaka”.

KUMA TANA DAGA CIKIN
ADDU'O'IN BUXE SALLAH
MUSAMMAN SALLAR
TSAYUWAR DARE



«سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ
اغْفِرْ لِي»

*(Subhanakallahumma rabbana wa
bihamdika allahummagfir lii)*

“Tsarki ya tabbata gare ya
ubangijinmu da godiya a gareka, Ya
Ubangiji kayi mun gafara”

KUMA WANNAN ADDU'AR
ANA KARANTA TA A CIKIN
RUKU'I DA SUJADA

5

«اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخِطِكَ،
وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا
أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ»

*(Allahumma a'uzu biridhaka min
sakhadika, wa bi mu'afaatika,
min min uqubatika, wa a'uzu bika
minka la uhsii sanaa'an alaika anta
kama asnaita alaa nafsika)*

“Ya Ubangiji ina neman tsarinka da
yardaraka daga fushinka, da kuma
rangwamenka daga Uqubarka,

kuma ina neman tsarinka daga kai
bana kidanye yabo a gareka kai
kaxai kamar yadda ka yabi kanka”

KUMA ITA CE ADDU'AR DA
AKA SHAR'ANTA FAXARTA A
SUJADA

6

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّةً، وَجِلَّةً،
وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ»

*(Allahummag firlii zanbii kullahuu
diqqahu wa jillahuu, wa auwalahuu
wa akhirahu wa alaaniyyatahuu wa
sirrahuu)*

Ya Ubangiji kayi mun gafarar
Zunubaina baki xayansu qanana
da Manya, farkonsu da qarshen su
bayyanannu da Voyayyunsu”

**KUMA ITA CE ADDU'AR DA
AKA SHAR'ANTA FAXARTA A
SUJADA**

«اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي
نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا،
وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَعَنْ
يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ
يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي
نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا»

*(Allahumma j'al lii fii qalbi nuran,
wa fii lisaanii nuran wa fii sam'ii
nuran, wa fii basarii nuran wa
min fauqii nuran, wa min tahtii
nuran, wa an yamiinii nuran, wa
an shimaalii nuran, wa min baini*

*yadayya nuran, wa min khalfii
nuran, waj'al fii nafsii nuran, wa
a'azimlilii nuran)*

“Ya Ubangiji kasanya haske a cikin Zuciya ta, da Haske a Harshe na, da haske a jina, da Haske a ganina, da Haske a Sama na, da haske a qasa na, da haske a daman a, da Haske a Hagun na, da haske a gaba na, da haske a baya na, kuma kasanya haske a cikin raina, kuma ka girmamani da haske”

KUMA ITA CE ADDU'AR DA
AKA SHAR'ANTA FAXARTA
A SUJADA MUSAMMAN A
SALLAR DARE

8

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ،
وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا
وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ»

*(Allahumma inni a'uzu bika min
azaabi jahannama, wamin azaabil
qabri, wa min fitnatil mahyaa wal
mamaati, wa min sharri fitnatil
masiihad dajjaal).*

“Ya Ubangiji ina neman tsarinka
daga Azabar Wutar Jahannama da
Azabar Qabari da fitinar Rayayyu
da Matattu da kuma Sharrin fitinar
Dujal Mai Shafa”

KUMA ITA CE ADDU'AR DA
AKA SHAR'ANTA FAXARTA
A TAHIYA MUSAMMAN A
TAHIYAR QARSHE KAFIN
SALLAMA.



«اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ
عِبَادَتِكَ»

*(Allaahumma a'inni alaa zikrika,
washukrika, wa husni ibaadatika)*

“Ya Ubangiji ka taimakeni kan
Ambatonka, dag ode maka, da
kuma kyautata Bautarka”

KUMA ITA CE ADDU'AR DA
AKA SHAR'ANTA FAXARTA
A TAHIYA MUSAMMAN A
TAHIYAR QARSHE KAFIN
SALLAMA.



«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا
 أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ
 أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لَا
 إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ»

*(Allaahummag firlii maaqaddamtu
 wamaa akkhartu, wamaa asrartu
 wamaa a'alantu, wama asrartu,
 wama a'alamu bihi minnii, antal
 muqaddimu wa antal mu'akkhiru,
 laa'ilaaha illaa anta)*

“Ya Ubangiji kayi mun gafarar
 abunda na gabatar da wanda na

jinkirta da wanda na voye da wanda na bayyana, da wanda na yawaita aikata shi da abunda kafi saninsa daga ni, kai ne abun gabatarwa kuma kai ne mai jinkirtawa Babu wani Ubangiji sai kai”

KUMA ITA CE ADDU'AR DA
AKA SHAR'ANTA FAXARTA
A TAHIYA MUSAMMAN A
TAHIYAR QARSHE KAFIN
SALLAMA.



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ،
وَالْمَغْرَمِ»

*(Allahumma innii a'uzu bika minal
ma'asami, wal magrami)*

“Ya Ubangiji ni ina neman tsarinka
daga savo da bashi”

KUMA ITA CE ADDU'AR DA
AKA SHAR'ANTA FAXARTA A
TAHIYA A TAHIYAR QARSHE
KAFIN SALLAMA.



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ
النَّارِ»

*(Allahumma innii as'alikal jannata,
wa a'uzu bika minan naari)*

“Ya Ubangiji lallai ina roqonka Al-
janna, kuma ina neman tsarinka”.

KUMA ITA CE ADDU'AR DA
AKA SHAR'ANTA FAXARTA A
TAHIYA A TAHIYAR QARSHE
KAFIN SALLAMA.

13

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ
مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
عَذَابِ الْقَبْرِ»

*(Allahumma innii a'uzu bika minal
bukhli wa a'uzu bika minal jubni wa
a'uzu bika an aradda ilaa arzalil
umuri wa a'uzu bika min fitnatid
dunyawa a'uzu bika min azaabil
qabri)*

“Ya Ubangiji lallai ni ina neman
tsarinka daga rowa, kuma ina

neman tsarinka da tsoro kuma
ina neman tsarinka daga in koma
qasqantacciyar Rayuwa, kuma ina
neman tsarinka daga fitinar Duniya
kuma ina neman tsarinka daga
Azabar Qabari”

KUMA ITA CE ADDU'AR DA
AKA SHAR'ANTA FAXARTA A
TAHIYA A TAHIYAR QARSHE
KAFIN SALLAMA.

«اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا
يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ
عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ»

*(Allahumma innii zalamtu nafsii
kasiiran, wala yagfiruz zunuuba
illaa anta)*

“Ya Ubangiji lallai ni na zalunci
kaina zalunci kuma babu gafarta sai
kai, kayi mun gafara daga gareka,
kuma kaji qaina domin kai ne
Maigafara Mai jin qai”.

**KUMA ITA CE ADDU'AR DA
AKA SHAR'ANTA FAXARTA**

A CIKIN SALLAH SAI YA CE A
SUJADA KO BAYAN TAHIYA
QARSHE KAFIN SALLAMA.



«اللَّهُمَّ حَاسِبِي حِسَابًا يَسِيرًا»

*(Allaahumma haasibnii hisaabān
yasiiran)*

“Ya Ubangiji kayi mun Hisabi
Hisabi mai sauqi”.

KUMA ITA CE ADDU'AR DA AKA
SHAR'ANTA FAXARTA A CIKIN
SALLAH SAI YA CE A SUJADA KO
BAYAN TAHIYA QARSHE KAFIN
SALLAMA.



«رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ»

*(Rabbi qinii azaabaka yauma
tub'asu ibaadaka)*

“Ya Ubangiji ka tsare ni Azabarka
Ranar da zaka tashi bayinka”

KUMA ITA CE ADDU'AR DA
AKA SHAR'ANTA FAXARTA
A CIKIN SALLAH SAI YA CE A
SUJADA KO BAYAN TAHIYA
QARSHE KAFIN SALLAMA.

صَاحِبِ الدُّعَاءِ وَالشَّعَائِرِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى



**ADDU'O'I
ANNABI**



«اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي
الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ»

(Allahumma rabbanaa aatinaa faddunyaa hasatan wafil aakhirati hasanatan, wa qinaa azaabannaari)

“Ya Ubangiji ka bamu Mai kyau a Duniya haka ka bamu mai kyau a Lahira, kuma ka tsare mu daga Azabar Wuta”.

KUMA TANA DAGA CIKIN
ADDU'O'IN MANZON ALLAH
S.A.W.



«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي،
وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي»

*(Allahummag fir lii, warham nii,
wahdini, wa aafinii, warzuqnii)*

“Ya Ubangiji kayi mun gafara,
kuma kaji qaina, kuma ka shiryar
da ni kuma ka bani lafiya, kuma ka
Azurtani”.

KUMA ITA CE ADDU'AR DATA
TARE ALKAIRAN DUNIYA DA
LAHIRAI



«اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ
وَآغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ»

(Allaahumma kfini bi halaalika an haraamika, wa agnini bi fadhlika an man siwaaka)

“Ya ubangiji ka wadatar da ni da Halar xinka ga barin Haramun xinka, kuma ka wadata ni da Falalarka daga barin waninka”

**KUMA ITA CE ADDU'AR BIYAN
BASHI**

«اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى
طَاعَتِكَ» «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي
عَلَى دِينِكَ»

*(Allahumma musarrifal quluubi
sarrif quluubanaa alaa daa'atika)
y(ya muqallibal quluubi sabbit
qalbi ala diinika)*

“Ya Ubangiji Mai juya zukata ga
ka karkatar da Zukatanmu kan
biyayyarka” “Ya Mai juya zukata
ga ka tabbatar da Zukatanmu kan
Addininka”

KUMA ITA CE ADDU'AR
TABBATA KAN GASKIYA
KUMA ITA CE MAFI YAWAN
ADDn Addininka"U'AR
MANZON ALLAH SAW

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ
 وَآجِلِهِ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ
 بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ، عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ
 مِنْهُ، وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ
 خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ ﷺ،
 وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ
 وَنَبِيُّكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ
 إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ
 وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَسْأَلُكَ
 أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا»

(Allaahumma innii as'aluka minal khairi kullihi aajili wa aajilihi, maa alimtu minhu wamaa lam a'alam, wa a'uzu bika minash sharri kullihi aajilihi wa aajilihi maa alimtu minhu, wamaa lam a'alam, Allaahumma innii as'aluka mi khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyyika Muhammadun sallallaahu alaihi wasallam, wa a'uzu bika min sharri maa aazaka minhu abduka wa nabiyyika, Allahumma innii as'alukal jannata wamaa qarraba ilaiha min qaulin au amal, wa a'uzu bika minan naari wamaa qarraba ilaiha min qaulin au amal, wa asaluka an taj'ala kulla qadhaa'in, taqdhihi lii khairan)

“Ya Ubangiji ina roqonka daga cikin Al-kairi baki xayansa na yanzu da wanda zai zo a gaba wanda na sani da wanda bansani ba kuma ina neman tsarinka daga Sharri baki xayansa, na yanzu da wanda zai zo a gaba wanda nasani da wanda ban sani ba, Ya Ubangiji ina roqonka Alkairin da Manzon Annabi Muhammad ya roqeka, kuma ina neman tsarinka daga abunda Anabi Muhammadu Manzonka ya nemi tsarinka, Ya Ubangiji ina roqonka Al-janna da duk abunda zai kusantani zuwa ga ita na aiki ko Magana, kuma ina neman tsarinka daga Wuta da duk

abunda zai kusanta ni zuwa gare ta
na Magana ne ko aiki, Kuma ina
roqonka ka sanya dukkan abunda
ka hukunta shi gare ni ya zamanto

Al-kairi a gare ni”.

KUMA YANA DAGA CIKIN
ADDU'O'IN DA SUKA TARE
ADDU'O'I

«يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ»

(Ya hayyu ya qayyuumu bi rahmatika astagiisu, aslihlii sha'ani kullahu, walaa takilnii ilaa nafsii darfata ainin).

“Ya Rayayye ya tsayayye, da Rahamarka nake neman xauki, ka ingantamun sha'ani na baki xayansa, kuma kada ka barni da kaina daidai qiftawar Ido”

**KUMA ITA CE ADDU'AR YAYE
BAQIN CIKI**

«اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ ابْنُ ابْنِ أُمَّتِكَ
 نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ
 فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ
 سَمِيَتْ بِهِ نَفْسُكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ
 عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ
 فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ
 رِبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ بَصَرِي وَجِلَاءَ حُزْنِي
 وَذَهَابَ هَمِّي»

*(Allaahumma innii abduka ibnu
 amatika naasiyatii biyadika
 maadhin fiyya hukmuka adlun fiyya*

*qadha'uka, as'aluka bikullismin
huwa laka samaita bihii nafsaka au
anzaltahu fii kitaabika au allamtahu
ahadan min khalqika awista'asarta
bihii fii ilmil gaibi indaka an
taj'alal Qur'ana rabii'a qalbi wa
nura basarii wa jalaa'a huznii wa
zahaaba hammii)*

“Ya Ubangiji ni Bawanka ne
Xan bawanka Xan Baiwarka
Makwarkwaxata tana Hanninka
kuma Hukuncinka ya zartu a
kaina kuma Hukuncin ka Adalci
ne a gareni ina roqonka da dukkan
sunan da ka kirawo kanka das hi ko
ka saukar das hi a cikin littafinka

ko ka sanar das hi wani daga cikin
halittunka ko ka riqeshi a cikin
Ilimin fake a Wurinka ka sanya
Al-qur'ani ya zamanto Hasken
Zuciyata, da hasken Gani na da
yayewar baqin ciki na da gushewar
vacin raina”

KUMA ITA CE ADDU'AR YAYE
DAMUWA DA BACIN RAI



«اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا، وَأَنْتَ
تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ»

*(Allahumma laa hashla illaa maa
ja'altahu sahla, wa anta taj'alul
hazna sahlana izaa shi'ita)*

“Ya Ubangiji babu sauqi sai abunda
kasanya shi Mai sauqi, kuma kaine
Mai sanya Wahala sauqi idan kaso”

KUMA ITA CE ADDDU'AR
SAUQAQE AL-AMURA IDAN
SUKAI WAHALA

9

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ وَالتُّقَىٰ،
وَالْعَفَافَ وَالْغِنَىٰ»

*(Allahumma innii as'alukal hudaa
wattuqaa, wal'afaafawal ganaa)*

“Ya Ubangiji lallai ni ina roqonka shiriya da tsoron Allah, da kamewa da Wadata”.

10

«اللَّهُمَّ اهْدِنِي، وَسَدِّدْنِي»

Allahumma Ihdini Wa saddidni”

“Ya Ubangiji ka shiryar da ni kuma ka datar da ni”

«اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةٌ
 أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي،
 وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ
 الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ
 رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ»

*(Allahumma aslihlii diiniyallazii
 huwa ismatu amrii, wa aslihlii
 dunyaayal latii fihaa ma'aashii, wa
 aslihlii aakhiratillati fihaa ma'adii,
 waj'alil hayaata ziyaadatan lii
 fii kulli khairin, waj'alil mauta
 raahatan lii min kulli sharrin)*

“Ya Ubangiji ka gyaramun Addini na wanda shi ne ginshiqin Al-amari na, kuma ka gyaramun Duniya ta wacce rayuwa ta take cikinta, kuma ka gyara mun Lahira ta wacce Makomata ta ke cikinta, kuma ka Sanya Rayuwa ta zamanto mun qari ce a gare ni a cikin kowane Al-kairi, kuma ka sanya Mutuwa ta bzamanto mun hutu daga dukkan Sharri”.



«اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ
عَنِّي»

*Allahumma innaka afuwwun
tuhibbul afwa fa'afu annii)*

“Ya Ubangiji lallai kai Mai Afuwa
ne to kayi mana Afuwa”

«اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشِيَّتِكَ مَا يَحُولُ
 بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ
 مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا
 تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتَّعْنَا
 بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا،
 وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى
 مَنْ ظَلَمَنَا، وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا
 تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا
 أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ
 عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا»

(Allaahumma qsim lanaa min khashyatika maa tahuulu bainanaa wabaina ma'aasiika, wamin dha'atika maa tuballigunaa bihii jannataka, wa minal yaqiini maa tahuunu alainaa masaa'ibad dunyaa, Allahumma amti'ina bi as'maa'inaa, wa absaarinaa, wa quwwatina maa ahyaitanaa, waj'al sa'aranaa alaa man zalamana, wansurna alaa man aadaana, walaa taj'al musiibatinaa fii diininaa, walaa taj'alud dunyaa aksaru hamminaa, walaa mablaga ilminaa, walaa tusallidh alainaa man laa yarhamunaa)

Ya Ubangi ji ka bani daga cikin

tsoronka abunda zai kare tsakanina da savonka, da kuma biyayyarka abunda zai kaini zuwa Al-jannarka, da kuma tabbaci abunda zai sauqaqemun musibun Duniya Ya Ubangi ji ka jiyar da mu daxi da jinmu, da ganinmu, da qarfinmu gwargwadon yadda raya mu, kuma ka gadar mana das u, ka sanya mana fansarmu kan wanda ya Zalunce mu, kuma ka taimakemu kan wanda ya ke gaba da mu, kuma kada ka sanya Musifarmu a cikin Addininmu kuma kada ka sanya Duniya ta zama it ace Babban burinmu, ko kuma qarshen Iliminmu, kuma kada ka xora mana wanda ba zai ji qanmu ba”

«رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنِّ عَلَيَّ، وَانصُرْنِي وَلَا
 تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ،
 وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي، وَانصُرْنِي عَلَى
 مَنْ بَغَى عَلَيَّ، رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَرًا، لَكَ
 ذَكَرًا، لَكَ رَهَابًا، لَكَ مَطْوَعًا، لَكَ مُحِبًّا،
 إِلَيْكَ أَوْاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي،
 وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ
 حُجَّتِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَاسْأَلْ
 سَخِيمَةَ صَدْرِي».

*(Rabbi a'innii walaa tu'in alayya,
 wan surnii walaa tansus alayya,*

*wamkurlii walaa tamkur alayya,
wahdinii wa yassiril hudaa lii,
wansurnii alaa man bagaa alayya,
rabbij'alnii laka shakkaaran, laka
zakkaaran, lakaa rahhaban, laka
midawaa'an, laka mukhbitan,
ilaika awwahan waniiban, taqabbal
taubatii, wagsil haubatii, wa ajib
da'awatii, wa sabbita hujjatii,
wa saddid lisaanii, wahdi qalpii,
waslul sakhimati sadrii)*

“Ya Ubangiji ka taimakeni kada ka
taimaka a kaina, ka taimakeni kada
ka taimaka akaina, ka xaukarmun
fansa ka kaxau fansa akaina, ka
shiye ni kuma ka saukaqemun

Shiriya, Ya Ubangiji ka taimakeni kan wanda ya zalunceni kuma ka sanyan ni Mai yawan godiya a gare ka mai yawan Anbatonka, mai jin tsoronka, Mai biyayya a gareka mai komawa zuwa gareka, mai Maida Al-amarina zuwa gareka Ubangijim ka karvi tuba na, ka karvi tuba na, ka Amsa Addu'a ta ka tabbatar da Hujjata, ka saita mun harshe na, ka shiryar da Zuciyata, ka wanke mun Hiqidin da yake cikin Qirjina”

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ
الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ
لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ
فَتَوَفَّيْنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ
مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ»

*(Allaahumma innii as'alukal
khairaati, wa tarkal munkaraati, wa
hubbal masaakiini, wa an tagfira
lii wa tarhamnii, wa iza aradta
fitnata fii qaumii fatawaffanii gaira
maftuunin, wa as'aluka hubbaka wa
hubba man yuhibbuka, wa hubbub
amalin yuqarribu ilayya hubbika)*

“Ya Ubangiji lallai ina roqonka Ayyukan Al-kairi, da barin Munanan Ayyuka, da San Miskinai, kuma kayi mun gafara kuma kaji qaina, kuma idan kaso fitinar wasu Mutane to ka karveni ba tare da na fitunu ba, kuma ina roqonka sonka da son wanda yake sonka da son aikin da zai kusantani zuwa gareka”

MANZON ALLAH SAW YA
CE: GAME DA WAXAN NAN
ADDU'O'I; LALLAI ITA
GASKIYA CE KU KARANTA
SANNAN KOYAR DA SU

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ،
وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرَّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ
رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ
شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ
قَلْبًا سَلِيمًا، وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ
خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا
تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ
عَلَّامُ الْغُيُوبِ»

*(Allahumma innii as'alukas
sabaata fil amri, wal aziimata alar
rashdi, wa as'aluka muujibaati*

*rahmatika, wa azaaima magfiratika,
wa 'as'aluka shukra ni'imatika,
wa husna 'ibadatik, wa as'aluka
qalban salima, wa lisanan sadiqa,
wa as'aluka min khairi ma ta'lam,
wa a'uzu bika min sharri ma ta'lam,
wa astaghfiruka lima ta'lam, innaka
anta 'allamul ghuyub)*

“Ya Ubangiji lallai ni ina roqonka sabati a cikin Al-amari, da Himma kan Shiriya, kuma ina roqonka Abubuwan da zasu janyo shiriyarka, kuma ina roqonka godewa Ni'amarka, da kuma kyautata Ibadarka, kuma ina roqonka zuciya kuvutacciya, da Harshe mai

gaskiya, kuma ina daga Al-kairin
abunda na sani, kuma ina neman
tsari daga abunda bansani ba, Lallai
kai ne Masanin fake”

A CIKIN HADISI CEWA ITA
MAFI AL-KAIRI DAGA TASKAR
ZINARE DA AZURFA

«اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ
عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي
فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ
تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذُلُّ مَنْ
وَالَيْتَ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تَبَارَكْتَ
رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ»

*(Allaahumma dinii fiiman hadaita,
wa aafinii fii man aafaita, wa
tawallanii fii man tawallaita, wa
baarik lii fii ma a'adaita, wa qinii
sharra maa qadhaita, innaka taqdhii
walaa yuqdhaha alaika, innahuu laa*

*yazillu man waalaita, walaa ya'izzu
man aadaita, tabaarakta rabbanaa
wata'alaita)*

“Ya Ubangiji ka shirye ni cikin
nwaxanda ka shiryar, ka bani lafiya
cikin waxanda ka bawa lafiya, ka
jivanceni cikin waxanda ka jivanta
kuma ka sanya mun Al-barka cikin
abunda ka bani, kuma ka tsareni
daga sharrin abunda ka Hukunta,
kai ne kake yin Hukunci kuma babu
mai yin Hukunci akanka, kuma baya
qasqanta duk wanda ka jivanta,
kuma baya xaukaka duk wanda yayi
gaba da kai, Akairanka sun yawaita
Ubanjinmu kuma ka xaukaka”.

«اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ، وَقُدْرَتِكَ عَلَى
الْخَلْقِ، أَحْيَيْتَنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي،
وَتَوَفَّيْتَنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي، وَأَسْأَلُكَ
خَشِيَّتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ
الْإِخْلَاصِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ
نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَقُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ،
وَأَسْأَلُكَ الرِّضَاءَ بِالْقَضَاءِ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ
بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ،
وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَاءِ
مُضِرَّةٍ، وَفِتْنَةِ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ
الْإِيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ»

(Allahumma bi'ilmikal gaiba, wa qudaratika alal khalqi, ahyinii maa alimtal hayaata khairan lii, wa tawaffanii iza'a alimtal wafaata kairan lii, wa as'aluka khashyataka fil gaibi wash shahaadati, wa kalimatul ikhlaasi fir ridha wal gadhabi, wa as'aluka na'iman laa yanfadu, wa qurrata ainin laa tanqadhi'u, wa as'alukar ridha'a bil qadha'I, wa bardal aishi ba'adal mauti, wa lazzatin nazri ilaa wjhika, wash shauqa ilaa liqaa'ika, wa a'uzu bika min dharraa'a mudhirratin, Allaahumma zayyinnaa bi ziinatil iimaani waj'alna hudaatu muhtadiina)

“Ya Allah, ina roqonka da ilimin ka na gaibu, da ikonka kan halittar ka, ka sa na yi rayuwa matuqar rayuwa tana da kyau a gare ni, kuma ka karveni Idan ka san mutuwa tana da kyau a gare ni, kuma ina roqonka tsoronka a cikin gaibi da bayyane, da kuma kalmar gaskiya cikin gamsuwa da fushi, kuma ina roqonka ni'ima wacce ba ta karewa, da kuma farin ciki wanda ba ya yankewa, kuma ina roqonka yadda da qaddara, da dakin rayuwa bayan Mutuwa, da kuma jin dakin kallon fuskarka, da kuma fatan haxuwa da kai, kuma ina neman tsari da cuta mai cutarwa, kuma fitina mai vatarwa, Allah ka qawatani da adon Imani kuma ka sanya mu shiryayyu masu shiryarwa.”



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ
فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ
عَوْرَاتِي، وَأَمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي
مِنْ بَيْنِ يَدَيْ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي،
وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ
أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي»

*(Allaahummainnias'alukalaafiyata
fiddunyaa al'aakhirati, Allahumma
as'alukal afwa wal aafiyata fii diinii
wa dunyaaya wa ahlii wa maalii,
Allahumma ustur aurati wa aamin*

rau'ati, Allahummahfaznii min baini yadayya, wa min khalfii, wa an yamiinii, wa an shimaalii, wa min fauqii, wa a'uzu bi'azmatika an ugataala min tahtii)

“Ya Ubangiji ina roqonka lafiya a Duniya da Lahira, Ya Ubangiji ina roqonka Afuwa da lafiya a duniya tad a Lahira ta, da Ahalina da Dukiya ta, Ya Ubangiji ka Suturta Al-aurata kuma ka Amintar da tsoro na, Ya Ubangiji ka kiyaye nit a gabana da bayana da Daman a da Haguna da Sama na da Qasa na, kuma ina neman tsarinka da girmanka kada a shammaceni a hallakani ta qasa na”

صِحِّحِ الدُّعَاءَ وَالشَّعَائِرَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى



**ADDU'O'IN
NEMAN TSARI
NA MANZON
ALLAH**



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ
وَشَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ»

*(Allahumma innii a'uzu bika min
sharri maa'alimtu wa sharri maa
lam a'alam)*

Ya Ubangiji ni ina neman tsarinka
daga Sharrin abunda na aikata da
wanda ban aikata ba”

It is the most repeated supplication
of the Prophet PBUH.



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا
أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ»

*(Allahumma innii a'uzu bika an
ushrika bika wa ana a'alamu,
wa astagfiruka lima laa a'alam)*

“Ya Ubangiji lallai ina neman
tsarinka daga inyi shirka da kai
kuma ina sane, kuma ina ne, man
gafararka da abunda bansani ba”

**KUMA ITA CE ADDU'AR
TAFIYAR DA RIYA DAGA AIKI**

3

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ،
وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ
سَخَطِكَ»

*(Allahumma innii a'uzu bika min
zawaali ni'imatika, wa tahawwali
aafiyatika, wa fajaati niqmatika,
wa jamii'i sakadika)*

“Ya Ubangiji ni ina neman tsarinka daga gushewar Ni'amarka da juyawar lafiyarka, da kuma mamayar Azabarka, da baki xayan fushinka”.

4

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ،
وَالْأَعْمَالِ، وَالْأَهْوَاءِ، وَالْأَدْوَاءِ»

*(Allahumma innii a'uzu bika
min munkaraatil akhlaaqi, wal
a'amaali, wal ahwaai, wal adwaa'i)*

“Ya Ubangiji ni ina neman tsarinka
daga Munanan Hakaye, da Ayyuka,
da Son Raid a Rashin lafiya”



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ،
وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ
الْأَعْدَاءِ»

*(Allahumma innii a'uzu bika min
jahdil bala'i, wa darakish shaqaa'I,
wa suu'il qadaa'i, washamaatatil
a'adaa'i)*

“Ya Ubangiji ina neman tsarinka
daga wahalar Bala'I, da riskar
tavewa, da Mummunan Qaddara,
da Dariyar Abokan gaba”

6

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ،
وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ
اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ
مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا
يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا
يُسْتَجَابُ لَهَا»

*(Allahumma innii a'uzu bika
minal ajzi, walkasali, waljubni,
walbukhli, walharami, wa azabil
qabri Allahumma aati nafsii
taqwahaa, wazakkihaa anta khairu*

*man zakkaaha, anta waliyyuha wa
maulaaha, Allahumma innii a'uzu
bika min ilmin la yanfa'u, wamin
qalbin laa yakhshaa, wamin nafs
laa tashba'u, wamin da'awati laa
yustajaabu lahaa)*

“Ya Ubangiji ni ina neman tsarinka daga gajiya, da kasala, da tsoro da Rowa, da tsufa, da Azabar Qabari, Ya Ubangiji ka bawa zuciyata tsoronka, kuma ka tsarkake ta kai ne mafi Al-kairin Mai tsarkaketa, Kai ne majivincinta kuma Shugabanta Ya Ubangiji ni ina neman tsarinka daga Ilimin da basi da Anfani, da Zuciyar da bata jin tsoronka, da Ran da baya Qoshi, da Addu'ar da bata Amsuwa”



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الِهَمِّ وَالْحَزَنِ،
وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ،
وَضَلَعِ الدِّينِ، وَغَلْبَةِ الرَّجَالِ»

*(Allahumma innii a'uzu bika
minal hammi wal'hazani, wal'ajzi
walkasali, walbukhli waljubni, wa
dala'iddaini, wagalabatir rijaali)*

“Ya Ubangiji ina neman tsarinka
daga daga Damuwa da Baqin ciki,
da Gajiyawa da Kasala da Rowa da
tsorro, da kuma rinjayar bashi, da
rijayar Maza”



«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ
شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي، وَمِنْ شَرِّ
قَلْبِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيَّ»

*Allahumma innii a'uzu bika min
sharri sam'ii, wa'min sharri
basarii, wamin sharri lisaani,
wa'min sharri qalbi, wa'min sharri
maniyyii,*

“Ya Ubangji ina neman tsarinka
daga sharrin jina da Sharrin gani
na, da Sharrin Harshena, da Sharrin
Zuciya ta, da Sharrin Zuciyata”

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَمِنْ
عَذَابِ النَّارِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ،
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ،
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ»

*(Allahumma innii a'uzu bika min
fitnatin nari, wa min azabinnari,
wa a'uzu bika min fitnatil qabri, wa
a'uzu min azabil qabri, wa a'uzu
bika min fitnatil gina, wa a'uzu bika
min fitnatil faqri, wa a'uzu bika min
fitnatil masihid dajjaal)*

“Ya Ubangiji lallai ni ina neman tsarinka daga Fitinar Wuta, da Azabar Wuta, kuma ina neman tsari daga fitinar Qabari, kuma ina neman tsarinka daga Fitinar Wadata, kuma ina neman tsari daga Fitinar Talauci, kuma ina neman tsari daga Dujal”

10

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ،
أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ،
وَالجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ»

*(Allahumma innii a'uzu bi'izzatika,
laa'ilaaha illaa anta, an tadhillanii,
antal hayyul lazii laa ya'muutu,
waljinnu wal insu ya'muutuuna)*

Ya Ubangiji ina neman tsarinka
da buwayarka babu wani Ubangiji
sai kai kada ka vatar da ni, kai
ne rayayye wanda wanda baya
Mutuwa Aljani da Mutum duka
suna Mutuwa

11

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ،
وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ»

*(Allahumma innii a'uzu bika minal
barasi, wal juuni, wal juzaam, wa
min sayyi'il asqaam)*

“Ya Ubangiji ina roqonka tsari daga
Al-Baras da Kuturta da Hauka da
baki xayan cututtuka”

12

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السَّوْءِ، وَمِنْ
لَيْلَةِ السَّوْءِ، وَمِنْ سَاعَةِ السَّوْءِ، وَمِنْ
صَاحِبِ السَّوْءِ، وَمِنْ جَارِ السَّوْءِ فِي دَارِ
الْمُقَامَةِ»

*(Allahumma innii a'uzu bika min
yaumissu'i, wa min lailatis suu'I,
wa min sa'atis suu'I, wa min sahibis
suu'I, wa min jaarissuu'i fii daaril
muqaamati)*

Ya Ubangiji ni ina neman tsarinka
daga mummunar Rana da Mummunan
Dare, da Mummunan Awa, da
Mummunan Aboki da Mummunan
Makwafci a Gidan Zama”



«أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا
بَطَّنَ»

*“A’uzu billahi minal fitani, maa
zahara minhaa wama badana”*

Ina neman tsari da Allah daga Fitina
abunda ya bayyana daga itada
wanda ya vuya”

صِحِّحِ الدُّعَاءَ وَالشَّعَائِرَ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى



ADDU'
AR RUQYA



A karanta Suratul Fatiha sau Bakwai

﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ
 اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾ مَلِكِ يَوْمِ
 الدِّينِ ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥﴾
 أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦﴾ صِرَاطَ الَّذِينَ
 أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
 وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾﴾ [الفاتحة: ١-٧]

Ina neman tsari da Allah daga
 Shaxan abun nesantawa daga
 Rahama.

Da sūnan Allah, Mai rahama, Mai
jin kai, Godiya ta tabbata ga Allah,
Ubangijin halittu

Mai rahama, Mai jin kai; Mai nuna
Mulkin Rānar Sakamako. Kai muke
bautawa, kuma Kai kadai muke
neman taimakon Ka, Ka shiryar
da mu ga hanya madaidaiciya.,
Hanyar wadanda Ka yi wa ni'ima,
ba wadanda aka yi wa fushi ba,
kuma ba batattu ba. Ameen

karanta Ayatal Kursiyyi sau xaya

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ
سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ
بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ

الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ [البقرة: ٢٥٥]

Allah, bãbu wani Ubangiji fãce
Shi, Rãyayye, Mai tsayuwa da
kõme, gyangyadi bã ya kãma Shi,

kuma barci bã ya kãma Shi, Shi ne da abin da yake a cikin sammai da abin da yake a cikin kasa. Wane ne wanda yake yin cẽto a wurinSa, fãce da izninSa? Yana sanin abin da yake a gaba gare su da abin da yake a bãyansu. Kuma bã su kẽwayẽwa da kõme daga ilminSa, fãce da abin da Ya so. KursiyyunSa ya yalwaci sammai da kasa. Kuma tsare su bã ya nauyayarSa. Kuma Shi ne Madaukaki, Mai girma.

3

Karanta Qulhuwa da Falaqi da Nasi
sannan a tofa a Hannaye sannan a
shafa inda yake ciwon

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝۱ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝۲
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝۳﴾
﴿أَحَدٌ ۝۴﴾ [سورة الإخلاص]

"Ka ce: "Shi ne Allah Makadañci."
"Allah wanda ake nufin Sa da
bukata." "Bai haifa ba, kuma ba a
haife Shi ba." "Kuma babu daya da
ya kasance kini a gare Shi

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا
 خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِنْ
 شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ
 إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾﴾ [سورة الفلق]

"Ka ce "ina neman tsari ga Ubangijin safiya""Daga sharrin abin da Ya halitta." "Da sharrin dare, idan ya yi duhu." "Da sharrin mātā māsutōfi a cikin kuduri""Da sharrin mai hāsada idan ya yi hasada."

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾
إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾
الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنْ
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾﴾ [سورة الناس]

"Ka ce "Ina nēman tsari ga
Ubangijin mutāne." "Mamallakin
mutane." "Abin bautāwar mutāne."
"Daga sharrin mai sanya wasuwāsi,
mai boyewa." "Wanda ke sanya
wasuwāsi a cikin kirāzan mutane."
"Daga aljannu da mutane."

«اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ، اشْفِ
أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً
لَا يُغَادِرُ سَقَمًا»

*(Allahumma rabbannasi azhabil
ba'asi, ishfi antash shafi laa
shifa'a illa shifaa'uka, shifaa'an
laa'yugadiru suqman)*

(Ya Ubangijin Mutane ka taiyar da
cutar kai ne mai Warkarwa, kuma
babu wata Waraka sai sai taka)

Zai Shafa Hannunsa na Dama kan
wurin da yake masa ciwon ko Mara
lafiyar sannan ya karanta wannan
Addu'ar.



«بِسْمِ اللَّهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بَرِيقَةَ بَعْضِنَا،
يُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا»

(Da sunan Allah, Qasar mu, da yawun wasin mu zai warkar da wasu daga cikinmu da yardarm Ubangijinmu)

Zai Shafa Hannunsa na Dama kan wurin da yake masa ciwon ko Mara lafiyar sannan ya karanta wannan Addu'ar.

6

«بِسْمِ اللَّهِ» «أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ
مَا أَجِدُ وَأُحَازِرُ»

*(Bismillahi) (A'uzu billahi wa
qud'ratihii min sharri maa ajidu
wa'uhaaziru)*

Da sunan Allah, ina neman tsarin
Allah da ikonsa daga Sharrin
abunda nake ji kuma nake tsoro”

Zai sanya Hannunsa a wurin ciwon
kuma ya ce: «بِسْمِ اللَّهِ» Sau Uku Da
sunan Allah sannan kuma y ace Sau
bakwai

«أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَازِرُ».

“Ina neman tsari da Allah da ikonsa

daga Sharrin abunda nake ji kuma
nake tsoro”



«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ
شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ»

*(A'uzu bikalimatillahit taammati,
min kulli shaidaanin wa
haammaatin, wa min kulli ainin
laammaati)*

(Ina neman tsari da Kalmomin
Allah cikakku daga dukkan Sharrin
Shaixan da kuma citarsa, daga kuma
dukkun Wani Ido mai cutarwa)



«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا
خَلَقَ»

*(A'uzu bikalimatillahit taammati
min sharri maaqalaqa)*

Ina neman tsarin Allah da
Kalmominsa cikakku daga sharrin
abunda ya halitta



«بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ،
فِي الْأَرْضِ، وَلَا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ»

*(Bismillallahil lazi laa yadhurru
ma'asmih shai'un fil ardhi, wala
fis sama'I wa huwas sami'ul aliim)*

“Da Sunan Allah wanda in an faxi
sunansa babu wani abu da zai cutar
a qasa ne ko sama kuma shi mai ji
ne Masani”

ZAI FAXA HAKA SAU UKU

«بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ، مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ،
مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ حَاسِدٍ، اللَّهُ
يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ»

*(Bismikallah arqika, min kulli sai'in
yu'azika, min sharri kulli nafsin
au ainin hasid, Allahu yashfika
bismillahi arqika)*

“Da sunan Allah, na na ke yi maka Ruqya, daga duk abin da zai cutar da kai, daga sharrin kowane rai ko ido mai hassada, Allah ya warkar da ku da sunan Allah na ke yi maka ruqya.”



«أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
أَنْ يَشْفِيكَ»

*As'alullaahal aziima rabbal arshil
aziima an yashfiika)*

Ina roqon Allah Maigirma
Ubangijin Al-Arshi Maigirma ya
warkar da kai”

ZAI KARANTA SAU BAKWAI
DA ZAI KARANTA A KANSA
ZAI CE: INA ROQON ALLAH
MAIGIRMA UBANGIJIN AL-
ARSHI MAIGIRMA YA WARKAR
DANI” SAU BAKAWAI

Akwai Wasu Sharaxai da kuma wata Nusarwa wacce ya kamata a kula da ita a cikin Ruqya su ne:



Ta kasance Ruqya ce ingantacciya daga littafin Allah da Sunna, wacce take nesa ga barin Shirka da Bidi'a da Haramun duk xaya ne ai a Hanyarta ko lafazanta.



Lallai cewa Musulmi ya xanfara da Ubangijinsa kuma ya dogara das hi, kuma ya sani cewa lallai Euqya Sababi ce bata da wani Tasiri said a yardar Allah Maxaukaki.

3

Kada ya zo da Ruqya sai ta Hanyar gwaji, aa ya Wajaba ya yi Imani da Tasiriinta, saboda cewa Mai Ruqya da wanda akewa Ruqya tana da tasirim Ruqya din da warkewarsa

4

Al-qurani Mai girma dukkan Ayoyinsa Waraka ne, Allah Maxaukakin Sarki:

﴿وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ

لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الإسراء: ٨٢]

“Kuma muna saukar da Wannan Al-qur’ani abunda yake waraka

kuma Rahama ce ga Muminai” sai dai Ruqya da abunda ya zo a Nassi it ace ta fi.



Abun da ya fig a Mara lafiya yayi wa kansa Ruqya da kansa, saboda wannan shi ne mafi anfani a gare shi kuma mafi yawan gasgatawa wajen bayyana buqatar sa saboda halarto da Zuciya da tsarkake Niyya gare shi yana da Tasiri a wajen Ruqya.

صَحِيحُ الدَّعَاوِ الشَّاعِرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي تَالِبٍ

ZIKIRORIN SAFIYA
DA MARAICE



«لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ»

*(La'ilaha 'illallahu wahdahu la
shariika lahu, lahul mulku walahul
hamdu, wa huwa alaa kulli shai'in
qadir)*

Babu wani Ubangiji da ya cancanci
a bauta masa da gaskiya sai Allah
shi kadai bashi da abokin tarayya
Mulki nasa ne haka ma godiya
kuma shi mai iko ne akan komai.

SAU GOMA

2

«أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ،
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ، وَخَيْرَ
مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا
الْيَوْمِ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَسُوءِ الْكِبَرِ، وَفِتْنَةِ
الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْقَبْرِ»

*(Asbahna wa'asbahal mulkulillahi,
walhamdulillahi, la'ilaaha illallahu
wahdahu laa shariika lahu,
Allahumma inni as'aluka khaira*

khaira maa fii haazihillailati, wa khaira ma ba'adahaa, wa'auzu bika min sharri maa fii hazihillailati, wa sharra maa ba'adahaa, Allahumma anni a'uzu bika minal kasali, wal harami, wa suu'ul kibari, wa finatillaili, wa azabil qabri)

Mun wayi gari kuma mulki na Allah ne kuma godiya ta tabbata ga Allah Babu wani Ubangiji sai shi shi kadai bashida abokin tarayya kuma godiya tasa ce kuma mai iko ne akan komai Ubangiji ina rokon ka Alkairin wannan rana da alkairin abinda yake bayanta kuma ina neman tsarinka daga sharrin wannan rana da abinda yake

bayanta Ubangiji ina neman tsarinka daga Kasala da Mummunan girman kai, Ubangiji ina neman tsarinka daga Azabar wuta da kuma Azabar Kabari

ZAI FAXI HAKAN IDAN YA WAYI GARI

«أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمَلِكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ،
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ، وَخَيْرَ
مَا بَعْدَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِهِ
اللَّيْلَةِ، وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ
بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهَرَمِ، وَسُوءِ الْكِبَرِ،
وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَعَذَابِ الْقَبْرِ»

*(Amsaina wa amasl mulku lillah)
Walhamdulillah la'ilaha Illallah
Wahdahu la Sharika lah wahdahu
lasharika lah, Allahumma inni
As'aluka khaira ma ba'adaha,
Wa'a'uzu bika min Sharri mafi
hathihi, Al-lailah, wa Sharri ma
ba'adaha, Allahumma Inni A'uzu
bika Min Al-kasal wal-haram wa
Su'u Al-kibar, Wa fitnat Al-dunya,
Wa Azab Al-qabr).*

Mun Maraice kuma mulki na
Allah ne kuma godiya ta tabbata
ga Allah Babu wani Ubangiji
sai shi shi kadai bashida abokin
tarayya kuma godiya tasa ce

kuma mai iko ne akan komai
Ubangiji ina rokon ka Alkairin
wannan rana da alkairin abinda
yake bayanta kuma ina neman
tsarinka daga sharrin wannan rana
da abinda yake bayanta Ubangiji
ina neman tsarinka daga Kasala da
Mummunan girman kai, Ubangiji
ina neman tsarinka daga Azabar
wuta da kuma Azabar Kabari

ZAI FAXA IDAN YAYI
YAMMACI

3

«اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي،
وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا
اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ،
أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي
فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ»

*(Allahumma anta rabbi la'ilaha illa
anta, wa'ana abduka wa'ana ala
ahdika wawa'adika mastada'atu,
A'uzu bika min sharri ma sana'atu,
abuu'u laka bini'imatika alayya,
wa'abuu'u bizambii fagfirlii
fa'innahu la yagfiruzzuba illaa
anta)*

Ya Ubangiji kaine ubangiji na babu wani Ubangiji sai kai kai ka halicce ni kuma ni bawanka ne kuma inanan akan alkaarinka gwargwadon iko ina neman tsarinka daga abinda nanyi kuma ina furuci da ni'amar da kayi mun kuma ina furuci da zunubaina kayi mun gafara babu mai gafarta zunubai sai kai kadai.

4

«اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ
نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ»

*(Allahumma bika asbahna, wabika
amsaina, wabika nahya, wabika
namuutu, wa'ilaikal masir)*

“Ya Ubangiji da kai muka wayi
gari kuma da kai mukayi yammaci
kuma dakai muke rayuwa, kuma da
kai ne muke Mutuwa, kuma zuwa
gareka zamu koma”,

ZAI FAXI HAKAN IDAN YA
WAYI GARI

«اللَّهُمَّ بِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ
نَحْيَا وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ»

*(Allahumm bika amsaina wabika
asbahna wabika nahya wabika
namuutu wa 'ilaikan nushuru)*

“Ya Ubangiji da kai muka yi
yammaci kuma da kai muka wayi
garikuma dakai muke rayuwa,
kuma da kai ne muke Mutuwa,
kuma zuwa gareka zamu tashi”

ZAI FAXA IDAN YAYI
YAMMACI

5

«اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبَّ كُلِّ
شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي
وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ
عَلَى نَفْسِي سُوءًا، أَوْ أُجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ»

*(Allahumma fadirissamawati wal
ardi, alimal gaibi wash 'shahaadati,
la 'ilaha illa anta rabba kulli shai 'in
wa maliikahu, a 'uzu bika min sharri
nafsii wa min sharrish shaidani wa
shirkihi, wa an aqtarifa ala nasii
suu 'an, au ajurrahu ila muslim)*

(Ya Ubangiji Mahaliccin Sammai da Qasa. Masanin fake da sarari, Babu wani Ubangiji sai kai Ubangijin kowane kuma Mamallakin kowane Abu, ina neman tsarinka daga Sharrin kaina da Sharrin Shaixan da Mutanensa, da kuma kada in janyowa kaina Wani Mummunan Abu ko in janyo ga Musulmi)

6

«بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ
فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْعَلِيمُ»

*(Bismillaahi laa yadhurru
ma'asmih shai'un fil ardhi, walaa
fissamaa'I wa huwas samii'ul
aliimu)*

(Da sunan Allah wanda in aka
kirawo sunansa babu wani abu da
zai iya cutarwa a Qasa ne ko a Sama
kuma shi mai ji ne Masani)

SAU UKU



«رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا،
وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا»

*(Radhitu billahi rabban, wabil
islami dinan, wa bi Muahammadin
sallallahu alaihi wasallama
nabiyyan)*

Na yarda da Allah shi ne Ubangiji
da Musulunci shi ne Addini da
Muhammad SAW shi ne Annabi

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ
فِي دِينِي وَدُنْيَايَ، وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ
عَوْرَاتِي، وَأَمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ
بَيْنِ يَدَيْي وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ
شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ
أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي»

*(Allahumma inni as'alukal afwa
wal afiyata fid dunya wal'akhirati,
Allahumma inni as'alukal afwa wal
afiyati fi diini wa dunyaya, wa ahli
wa mali, Allahummastur aurati, wa*

amin rau'ati, Allahummahfazni min baini yadayya wa min khalfi, wa an yamini wa an shimali, wa min fauqi wa a'uzu bi'azamatika an ugtaala min tahtii)

Ya Ubangiji ina roqonka Afuwa a Duniya da Lahira, ya Ubangiji ina roqonka Afuwa a Duniya tad a Lahira ta, da Ahali na da Dukiya ta ya Ubangiji ka suturta Al-aurata ka amintar da ni tsoro na kuma ka kiyaye ni a gabana da bayana da Dama na da Hagu na da sama na da Qasa na, kuma ina neman tsari da girmanka kada a kashe ni ta Shammata).



«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا
خَلَقَ»

*(A'uzu bikalimaatillahi tammati
min shari ma kalaqa).*

ina neman tsari da Kalmomin Allah
cikakku daga Sharrin abunda ya
Halitta

«أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ
الْإِخْلَاصِ، وَدِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا،
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»

*(Asbahna ala fidratil islam, wa dini
nabiyyina Muhammadin-sallallahu
alaihi wasallama, wa millati abina
Ibrahima hanifa, wama kana minal
mushrikina)*

munwayi gari kan Addinin
Musulunci da Kalmar tauhidi da
Addinin Annabinmu Muhammad

SAW da Tafarkin Manzonmu
Annabi Ibrahim Wanda yake kan
turbar daidai kuma bai kasance
yana cikin Mushirikai ba)

ZAI FAXI HAKAN IDAN YA WAYI GARI

«أَمْسَيْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَكَلِمَةِ
الْإِخْلَاصِ، وَدِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِلَّةِ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا،
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»

*(Amsaina ala fidaratil islam,
wakalimatil ikhalasi, wadini
nabiyyina Muhammadin-sallallahu
alaihi wasllama-wa millata abina*

*Ibrahima hanifan muslima, wama
kana minal mushrikina)*

(Munyi Maraice kan Addinin
Musulunci da Kalmar tauhidi da
Addinin Annabinmu Muhammad
SAW da Tafarkin Manzonmu
Annabi Ibrahim Wanda yake kan
turbar daidai kuma bai kasance
yana cikin Mushirikai ba)

ZAI FAXE TA IDAN YAYI
MARAICE

11

«يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ
لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي
ظُرْفَةَ عَيْنٍ»

*(Ya hayyu ya qayyumu birahmatika
astagisu aslihli sha'ani kullahu
wala takilni ila nafsi darfata aini)*

Ya rayayye tsayayye da kansa ina
neman taimakonka da Rahamarka,
kuma ka ingantamun Sha'ani na
baki xaya kuma kada ka barni da
kaina ko qiftawar Ido



«حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»

*(Hasbiyallahu la'ilaha illa huwa
alaihi tawakkaltu wahuwa rabbul
arshil aziimi*

Allah ya isar Mini babu wani abun
bauta da gaskiya sais hi gare shi
muka dogara kuma shi Ubangijin
Al-arshin Maigirma.

SAU BAKWAI



Wanda ya
shuxe



Dawowa zuwa Shafin farko

TANTANCE MATSAYIN HADISAN

NA FARKO: TANTANCE MATSAYIN HADISAN KIRARI GA ALLAH

- 1 Muslim ya rawaito shi (600)
- 2 Muslim ne ya rawaito shi (477)
- 3 Baihaqi ne ya rawaito shi a cikin Shu'ab Al-iman (4087) kuma Al-bani ya inganta shi a cikin Al-targib (1576)
- 4 Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi (1120) (7442) da Muslim (769)
- 5 Muslim ne ya rawai shi (2713)
- 6 Muslim ne ya rawaito shi a cikin Mustadrak xin sa kuma Al-bani ya inganta shi a cikin Silsila (267)

- 7 Abu Daud ne ya rawaito shi (1493) da Tirmizi (3475) kuma ya Hassana shi, kuma Al-bani ya ingantashi a cikin Mishkat Al-Masabih (2/708)
- 8 Bukhari ne ya rawaito shi (6345) da Muslim (2730)
- 9 Abu Daud ya rawaito shi (1525) da Ibn Majah (3382) kuma Al-bani ya inganta shi a cikin Sahih Al-targib wal-Al-tarhib (1824)
- 10 Muslim ne ya rawaito shi (2696)
- 11 Ibn Majah ne (3878) kuma Al-bani ya Inganta shi a a cikin Takhrij Ibn Majah.
- 12 Muslim ne ya rawaioto shi (1218)
- 13 Bukhari ne ya rawaito shi (6306)
- 14 Abu daud ne ya rawaito shi (1495) da Tirmizi (3544) kuma Al-bani ya inganta shi a cikin Mishkat Al-masabih (2/708)

- 15 Al-xabrani ne ya rawaito shi a cikin Al-ausax (7324) kuma Al-bani ya ingantashi a cikin Al-raghib (1839)
- 16 Ahmad ne ya rawaito shi (6/24) da Abu Daud (873) kuma Al-bani ya Inganta shi a cikin Mishkat Al-Masabih (1/192).
- 17 Abu Daud ne ya rawaito shi (874) da Nasa'I (1069) kuma Al-bani ya inganta shi a cikin Sahih sunan Al-nasa'I (3/289)
- 18 Muslim ne ya rawaito shi (601).

NA BIYU: BAYANIN MATSAYIN HADISAN SALLA

- 1 Bukhari ne ya rawaito shi (744) da Muslim ya rawaito shi (598)
- 2 Muslim ne ya rawaito shi (770)
- 3 Muslim ne ya rawaito shi (771)

- 4 Bukhari ne ya rawaio shi (794) da Muslim (484)
- 5 Muslim ne ya rawaito shi (486)
- 6 Muslim ne ya rawaito shi (483)
- 7 Bukhari ne ya rawaito shi (6316) da Muslim (763).
- 8 Bukhari ne ya rawaito shi (1377) da Muslim (588).
- 9 Abu Daud ne ya rawaito shi (1522) da Nasa'I (1303) kuma Al-bani ya Inganta shi a cikin Mishkat Al-Masabih (1/299).
- 10 Muslim ne ya rawaito shi (771).
- 11 Bukhari ne ya rawaito shi (798), da Muslim (589)
- 12 Abu Daud ne ya rawaito shi (792), da Ibn Majah (910) kuma Al-bani ya inganta shi a cikin Sahih Al-jami'a Al-sagir (1/604)

- 13 Bukhari ne ya rawaito shi (2822), (6390)
- 14 Bukhari ne ya rawaito shi (834) da Muslim (2705).
- 15 Hakim ne ya rawaito shi a cikin Al-mustadra xinsa(190) Kuma ya inganta shi
- 16 Muslim ne ya rawaito shi (709)

NA UKU: TANTANCE INGANCIN HADISAN ADDU'O'IN ANNABI

- 1 Bukhari ne ya rawaito shi (6389) da Muslim (2690)
- 2 Muslim ne ya rawaito shi (2697)
- 3 Trmizi ne ya rawaito shi (3563), kuma Al-bani ne ya Hassana isnadinsa a cikin Al-Sahiha (1/532).
- 4 Muslim ne ya rawaito shi (2654), kuma amma lafazin: (يَا مُقَلَّبَ الْقُلُوبِ نَبَّتٌ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ) “Ya mai juya Zukata ka tabbatar da Zuciyata a kan Addininka”saboda

Tirmizi ne ya rawaito shi (3522),
“Wannan Hadisi Hasan”

- 5 Ahmad ne ya rawaito shi (6/134) da Ibn Majah (2/1264) kuma Al-bani ya Inaganta ingantashi a cikin Sahih Al-jami'a Al-sagir (1/274)
- 6 Tirmizi ne ya rawaito shi (3524) da Nasa'I a cikin Al-sunan Al-kubra (9/212), kuma Al-bani ya Hassana shi a cikin sahih Al-jami'a (1913-5820).
- 7 Ahmad ne ya rawaito shi (4318) Kuma Shiekh Al-Islam Ibn taimiyya da Xalibinsa Ibn Al-qayyim ka duba: Shifa'u Al-alil Shafi: (274)
- 8 Ibn hibban ya rawaito shi (974) kuma y ace: Babi: “Bayanin abunda ake so mutum ya faxa wajen roqon Allah don sauqaqae Al-amura a gare shi idan abu yayi wuya” kuma Al-abani ya inganta shi a cikin Al-Sahiha (2886).

- 9 Muslim ne ya rawaito shi (2721), Al-si'adi y ace: game da wannan Al-du'a: "Wannan Addu'a tana daga cikin Addu'o'I da suka tare komai da Anfani, kuma sun qunshi tambayar Al-kairan Duniya da Lahira" Bahjat qulub Al-abrar wa Qurrat uyun Al-akhbar Shafi: (205)
- 10 Muslim ne ya rawaito shi (2725)
- 11 Muslim ne ya rawaito shi (2720)
- 12 Ahmad ne ya rawaito shi (7898) da Tirmizi (3513) kuma Ibn Baz ya Inaganta Isnadinsa
- 13 Tirmizi ne ya rawaito shi (7898) da Tirmizi (3437) kuma Ibn Baz ya Inaganta Isnadinsa
- 14 Tirmizi ne ya rawaito shi kuma y ace wannan Hadisi ne hasani kuma Sahihi"

- 15 Ahmad ne ya rawaito shi (22109) da Tirmizi (3235) kuma y ace wannan Hadisi ne hasani kuma Sahihi”
- 16 Xabrani ne ya rawaito shi a cikin Al-Kabir (7135), kuma Al-bani y ace: a cikin Al-sahiha: “Wannan Isnadinsa Mai kyau ne”.
- 17 Ahmad ne ya rawaito shi (1718) da Abu Daud (1425) kuma Al-bani ya Inaganta shi a cikin Miskat Al-Masabih (1273).
- 18 Ahmad ne ya rawaito shi (18325) da Nasa'i (1305) kuma Al-bani ya inganta shi a cikin Sahih Aljami'a (1301)
- 19 Abu Daud ne ya rawaito ya rawaito shi (5074), da Bukhari a cikin Al-adab Al-mufrad (1200), kuma Al-bani ya inganta shi a cikin Sahih Al-adab Al-mufrad (912).

NA HUXU TANTANCE INGANCIN HADISAN NEMAN TSARI NA MANZON ALLAH

- 1 Muslim ne ya rawaito shi (2716), kuma a cikin Sunan Al-Nasa (5524)
- 2 Bukhari ne ya rawaito shi a cikin Al-adab Al-Mufrad (716) kuma Al-bani ya inganta shi a cikin Sahih Aljami'a Al-Sagir (1/694).
- 3 Muslim ne ya rawaito shi (2739)
- 4 Tirmizi ne ya rawaito shi (3591), da kuma Xabrani a cikin Al-kabir (36), kuma Al-bani ya inganta shi a cikin Sahih Al-jami'a (1/278).
- 5 Muslim ne ya rawaito shi (2707)
- 6 Muslim ne ya rawaito shi (2722)
- 7 Bukhari ne y.a rawaito shi (2893), kuma Muslim ya rawaito wani daga vangarensa

- 8 Abu Daud ne ya rawaito shi (1551), da Tirmizi (3492) kuma Al-bani ya Ingancinsa a cikin Sahih Al-jami'a (2/811).
- 9 Bukhari ne ya rawaito shi (6376), da Muslim (589)
- 10 Muslim ne ya rawaito shi (2717)
- 11 Abu Dauk ne ya rawaito shi (1554) da nasa'I (5493) kuma Al-bani ya Inganta shi a cikin Sahih Al-jami'a (1/275)
- 12 Xabrani ne ya rawaito shi a cikin Al-kabir (810), kuma Al-bani ya Hassana shi, a cikin Sahih Al-Jami'a (1299)
- 13 Ahmad ne ya rawaito shi (2667) da Muslim (2867)

NA BIYAR: TANTANCE INGANCIN HADISAN ADDU'AR RUQYA

- 1 Bukhari ne ya rawaito shi (5749), da Muslim (2201), ya zo a cikin Sunan

na Tirmizi (2063), cewa shi yayi masa Ruqya da Fatiha qafa bakwai.

- 2 Muslim ne ya rawaito shi (810) kuma yazo a cikinsa cewa yana daga cikin mafi girman Aya a cikin littafin Allah kuma ya zo cikin Bukhari (2311) a cikin Sahihinsa cewa tana kariya daga Shaixanu
- 3 Bukhari ne ya rawaito shi (5735), (5748) da Muslim (2192).
- 4 Bukhari ne ya rawaito shi (5742), (5743).
- 5 Muslim ne ya rawaito shi (5745), (5746) da kuma Muslim (2194) Kuma)duba Sharhin Nawawi ga wannan Hadisin a Sharhinsa na Muslim (14/184)
- 6 Muslim ne ya rawaito shi (2202)
- 7 Bukhari ne ya rawaito shi (3371)
- 8 Muslim ne ya rawaito shi (2709)

- 9 Abu daud ne ya rawaito shi (5088), da Ibn Majah (3869) kuma Al-bani ya inganta shi a cikin Mikat Almasabih (2391)
- 10 Muslim ne ya rawaito shi (2186)
- 11 Abu Daud ne ya rawaito shi (3106), da tirmizi (2083) kuma Al-bani ya Inganta shi a cikin Sahih Wattargib (3480)

NA SHIDA: TANTANCE INGANCIN HADISAN SAFIYA DA MARAICE

- 1 Ahmad ne ya rawaito shi (8719) da Tirmizi (3437) kuma Ibn Baz ya Inaganta Isnadinsa
- 2 Muslim ne ya rawaito shi (2723)
- 3 Bukhari ne ya rawaito shi (3606)
- 4 Abu Daud ne ya rawaito shi (5068), da kuma Tirmizi (3391) kuma ibn Baz ya inganta sanadinsa

- 5 Ahmad ne ya rawaito shi (6597) da Tirmizi (3529) kuma Ibn Baz ya Inaganta Isnadinsa
- 6 Ahmad ne ya rawaito shi (446) da Tirmizi (10179) kuma Ibn Baz ya Inaganta Isnadinsa
- 7 Imam Ahmad ne ya rawaito shi, (18967), da Tirmizi, (3389), kuma Ibn Baz ya Hassana isnadinsa
- 8 Ahmad ne ya rawaito shi a cikin Al-Musnad (4785), da kuma Abu Daud (5074), kuma Al-hakim ya Inganta shi.
- 9 Ahmad ne ya rawaito shi (7898) da Tirmizi (3437) kuma Ibn Baz ya Inaganta Isnadinsa
- 10 Ahmad ne ya rawaito shi (21144,15367), kuma Ibn Baz ya Inganta Isnadinsa - Allah yayi masa Rahama- .

- 11 Al-Nasa'I ne ya rawaito shi (10405), da Bazzar (2/282) kuma Al-Bani ya Hassana shi a cikin Al-Silsila Al-Sahiha (1/449)
- 12 Abu daud ne ya rawaito shi (5081) kuma abunda yafi rinjaye Waqafinsa, kuma yana da Hukuncin rafa'I Kamar yadda Al-bani ya faxa a cikin Al-Silsila Al-Sahiha (11/449).

العلمية
الوقفية

اقتداء

Cibiyar Ilimi ta Iqtidaa Al-waqafia

Wacce take bada kulawa da Sunnar Al-nabi
SAW da Zikirorinsa nay au da Kullum.

Muna Maraba da kiranka:

00966503766222

 doa.eqtidaa.com



@eqtidaa1

 Download on the
App Store

ANDROID APP ON
 Google play